

سوال

بے بغیر: 2788م

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ح تانی زید سے ہوا، لیکن گواہ وکیل بوقت نکاح نہ تھا۔ صرف ایک شخص نکاح پڑھانے والا تھا۔ تو ایسی حالت میں نکاح بندہ کا زید سے شرعاً صحیح و درست ہوا یا کہ نہیں؟ جواب اس کا از روئے حدیث شریف و کتاب اللہ کے مرحمت ہو۔

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

تر!

عد!

ت مذکورہ میں نکاح بندہ کا زید سے صحیح و درست نہیں ہوا۔ صحت نکاح میں کم از کم دو گواہ شرط ہیں۔

ماقتد، أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: "لا نکاح الا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نکاح علی غیر ذلک، فمباطن"

(اخراج ابن جان فی صحیحہ نصب الراية الاحادیث الصداية: 2/2)

سوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ولی (کی اجازت) اور دو عادل گواہوں (کی موجودگی) کے بغیر کوئی نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ جو نکاح اس طریقے کے سوا ہو، وہ باطل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

هذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب

مجموعہ فتاویٰ عبداللہ غازی پوری

کتاب النکاح، صفحہ: 483

محدث فتویٰ